



سوال

(222) ذوالحجہ کے دنوں میں روزہ رکھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ذوالحجہ کے دنوں میں ہوتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهَا فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَنْدُلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ» (ترمذی: ص ۱۳۶۔ ابن ماجہ: ص ۲۵ ج ۱)

”ان دس دنوں میں کی گئی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے مقابلہ میں بہت ہی محبوب ہے کہ ان دنوں کا ایک ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر اور ایک ایک رات کا قیام شب قدر کے ثواب رکھتا ہے۔“ روایت قدرے ضعیف ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

[فتاویٰ محمدیہ](#)

ج 1 ص 584

محدث فتویٰ